



Storybooks Mauritius

global-asp.github.io/storybooks-mauritius

نڙي، چين، چيڙو، ڇوڪرو


Written by: Fabian Wakholl

Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by: Samrina Sana (ur), Alexandra Danahy

(fr)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Mauritius in an effort to provide children's stories in Mauritius's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



نڙي، چين، چيڙو، ڇوڪرو

Chèvre, Chien et Vache



✎ Fabian Wakholl

🔗 Marleen Visser, Ingrid Schechter

📖 Samrina Sana

🗨️ Urdu / French

📊 Level 2



بکری، کتا اور گا اے بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دن وہ
ٹیکسی پر سفر کر اے لکے۔

...

Chèvre, Chien et Vache étaient de très bons
amis. Un jour ils firent un voyage en taxi.



کتے نے اضافی کرایہ دے دیا، کیونکہ اُس کے پاس کھلمے
پیسے نہیں تھے۔

...

Chien paya un petit peu plus parce qu'il n'avait
pas la monnaie exacte.



اور گا اے کبھی گاڑی کے آنے کی پروا نہیں کرتی۔ وہ اپنا
وقت اے کرسٹک پار کرتی ہے۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اُس
نے اپنا مکمل کرایہ ادا کیا ہوا ہے۔

...

Et Vache n'est pas gênée quand une voiture
arrive. Vache prend son temps pour traverser la
rue parce qu'elle sait qu'elle a payé son tarif en
intégralité.



ڈرائیور کو غصہ آیا۔ وہ کہتے کو بقایا دیدے بغیر وہاں سے چلا گیا۔

...

Le chauffeur était très contrarié. Il partit sans donner Chien sa monnaie.



اسی وجہ سے آج بھی کتا گاڑیوں کے پچھے بھاگتا ہے تاکہ وہ اُس ڈرائیور کو تلاش کر کے اُس سے اپنے پیسے نکلوا سکے۔

...

Voilà pourquoi, même aujourd'hui, Chien cours vers une voiture pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et trouver le chauffeur qui lui doit sa monnaie.